

A۔ آپ کی فنانسنگ کی ضرورت		
پروڈکٹ کا نام	HBL کارلون	
درکار گاڑی	نئی ☐ استعمال شدہ ☐ لوکل ☐ امپورٹڈ گاڑی ☐	
درکار فنانسنگ	_____ روپے	
فنانسنگ کی مدت	_____ ماہ	
مارک آپ کی قسم	_____ فکسڈ	
B۔ فنانسنگ کی رقم کا تخمینہ		
مارک آپ ریٹ (سالانہ)	x.x%	
* ریگولر چارجز: 8,000 روپے پلس FED (بشمول) * دوبارہ کارلون لینے والے کسٹمرز: 4,000 روپے پلس FED (بشمول)۔ 06 ماہ بعد دوبارہ اپائی کرنے والے انفرادی افراد یا ایک فیسلٹی کی میچورٹی کے بعد یا سیٹلمنٹ کے کم از کم 06 ماہ بعد) بشمول: - دستاویزات کے چارجز - تصدیق - اسامپ ڈیوٹی - کریڈٹ رپورٹ: اصل 150 روپے تک - گاڑی کا جائزہ لینے کے چارجز: جو بھی اصل چارجز ہونگے وہ کسٹمر ادا کرے گا * تازہ ترین SOBC کے مطابق۔ یہ وقتاً فوقتاً تبدیل ہو سکتے ہیں، براہ مہربانی تازہ ترین SOBC کے لیے ویب سائٹ وزٹ کریں۔		
ماہانہ قابل ادائیگی قسط کتنی ہوگی؟ (صرف پہلے سال کے لیے برابر ماہانہ قسط (EMI))	_____ روپے * = فنانسنگ امانٹ + پروڈکٹ (APR x فنانسنگ کی مدت) / فنانسنگ کی مدت (مہینوں میں)	* یہ وقت پر مبنی ہے اور بالکل درست رقم منظوری کے وقت بتائی جائے گی۔
نوٹل ماہانہ قابل ادائیگی قسط کتنی ہوگی؟ (صرف پہلے سال کے لیے نوٹل ماہانہ ادائیگی (TMP))	_____ روپے * = EMI + ماہانہ انشورنس	
آپ فنانسنگ کے لیے کتنی رقم کی ادائیگی کریں گے؟	(انشورنس کے ساتھ ماہانہ کرائے کا مجموعہ) _____ روپے _____ X (فنانسنگ کی مدت) _____ مہینے = _____ روپے	
C۔ قبل از وقت ادائیگی اور جزوی ادائیگی		
کیا آپ لون / فنانس کی رقم میچورٹی سے قبل ادا کر سکتے ہیں؟	ہاں	
آپ لون / فنانس کی رقم میچورٹی سے قبل کس طرح ادا کر سکتے ہیں؟	کسٹمر براؤنچ پرنسپل لفٹ لائے گا اور کارلون کو قبل از وقت ختم کرنے کی درخواست دے گا۔	
کیا آپ کولون / فنانس کی قبل از وقت سبکدوشی پر کوئی اضافی رقم ادا کرنی ہوگی؟	1۔ گاڑی کی ڈیلیوری سے قبل سبکدوشی کی صورت میں واجب الادا رقم کا 10 فیصد پلس FED 2۔ گاڑی کی ڈیلیوری کے بعد سبکدوشی کی صورت میں واجب الادا رقم کا 5 فیصد پلس FED	
کیا آپ کو پیشگی ادائیگی / لون کی جزوی ادائیگی / فنانس کے لیے کوئی اضافی رقم / چارجز کی ادائیگی کرنا ہوگی؟	1۔ گاڑی کی ڈیلیوری سے قبل جزوی ادائیگی کی صورت میں طے کردہ رقم کا 10 فیصد پلس FED 2۔ گاڑی کی ڈیلیوری کے بعد جزوی ادائیگی کی صورت میں طے کردہ رقم کا 5 فیصد پلس FED	
D۔ عدم ادائیگی / ادائیگی میں تاخیر سے متعلق معلومات:		
اگر آپ اپنی ادائیگی کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو کیا اقدام اٹھائے جاسکتے ہیں؟	بینک گاڑی کو واپس قبضے میں لے سکتا ہے اور / یا کسٹمر کے خلاف قانونی چارہ جوئی کر سکتا ہے۔	
آپ قبضے میں لگی گاڑی کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟	اگر کسٹمر بقایا رقم ادا کرتا ہے؛ اسے گاڑی واپس کر دی جائے گی، تاہم اگر کسٹمر رقم ادا کرنے سے قاصر ہے، تو بینک پروسس کے تصفیے کا انتخاب کرے گا۔	
وقت پُر ادائیگی نہ کرنے پر آپ پر کیا جرمانہ عائد کیا جائے گا؟	تخیر سے ادائیگی کے چارجز (LPC) 1,200/- روپے پنچ (ماہانہ)	تخیر سے ادائیگی کے چارجز کا حساب کتاب کرنے کا طریقہ فکسڈ چارجز
گاڑی کا قبضہ دوبارہ حاصل کرنے کے لیے چارجز - 50,000/- روپے یا اصل (جو بھی کم ہو)		
E۔ دیگر ماہولی معلومات		
آپ کے پاس انشورنس کے کون کون سے آپشن موجود ہیں؟	انشورنس کروانا لازمی ہے، بینک کے پیش انشوررز میں شامل ہیں آدم جی، IEFU، JGI اور TPL (یا کوئی دوسرا جسے وقتاً فوقتاً HBL کی جانب سے منظور کیا گیا ہو)، اور جامع انشورنس کا احاطہ کیا گیا ہے (تفصیلی انشورنس سرٹیفکیٹ پر درج ہے)۔	
نابہندہ (نابہندگان) کے انتقال کی صورت میں کیا کیا جائے گا؟	متوفی کے فرائض کی ادائیگی کو قانونی ورثاء کی جانب سے تسلیم کیا جائے گا اور لیز کے پختہ ہونے تک اسے جاری رکھا جائے گا۔	
ضامن کے فرائض کیا ہیں؟	N/A	
آپ کو کون کون سی دستاویزات فراہم کی جائیں گی؟	HBL CarLoan کی درخواست، خط برائے تفہیم، پیڈل آف چارجز (SOBC)، کارلون فیسلٹی لیٹر، ڈائریکٹ ڈیپٹ کارڈ اتھارٹی، بینک اور ڈیلیوری میں تاخیر سے متعلق تفہیم، نان فاکٹرز کے لیے ٹیکس کا حساب کتاب، پروڈکٹ کی معلومات / خصوصیات اور کسٹمر کا اقرار نامہ۔	
کیا آپ اپنی گاڑی / لون / فنانس کی مدت کے دوران کسی تیسرے فریق کو فروخت کر سکتے ہیں؟	جی ہاں، آپ HBL سے NOC حاصل کرنے کے بعد کسی تیسرے فریق کو اپنی گاڑی فروخت کر سکتے ہیں جو صرف بقایا رقم کی ادائیگی اور بینک کے تمام واجب الادا ادائیگی کے بعد جاری کیا جاتا ہے۔	
آپ معاونت و مشاورت کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں؟	کسٹمرز HBL فون بینک نمبر 425-111-111 پر کال ملا سکتے ہیں یا مقامی HBL براؤنچ شریف لا سکتے ہیں۔	